



Nasirat Ijtima Syllabus Year: 2024-2025

For Ages 13-14

Nasirah **MUST** participate in Tilawat & Salat competition, in order to participate in any other competition.

Only those Nāsirāt who have paid their membership and Ijtimā Chanda can take part in the Regional Ijtimā competitions.

COMPETITION	SYLLABUS	NOTES
Tilawat-e-Quran MANDATORY	Chapter 62: Surah Al-Jumma (verses 1-12) with English, Urdu OR French Translation	<ul style="list-style-type: none">• Melodic recitation with correct pronunciation• Memorization is NOT required
Hifz-e-Quran	Chapter 87 Surah Al-Al'a with English, Urdu OR French Translation	<ul style="list-style-type: none">• Memorization with correct pronunciation• Melody NOT required
Salat/Namaz MANDATORY	1. Complete word-to-word OR whole sentences translation of Namaz (including Dua-Qunoot) 2. Funeral Prayer (Arabic Only)	<ul style="list-style-type: none">• Both 1 & 2 are mandatory for completion• Memorization is MANDATORY
English Speech	1. "Guide us in the Right Path" 2. Holy Quran - Complete Guidance for Mankind 3. Life and Character of Hazrat Nawab Mubarka Begum (ra)	<ul style="list-style-type: none">• 4-5 Minutes• Time starts after Attashahud• There will be a leeway of 15 seconds, no marks will be deducted if they are 15 seconds over or under the limit• Memorization is required at Regional and National level NOT Local

COMPETITION	SYLLABUS	NOTES
Urdu Speech	<p>1, وقت تھا وقت مسیحا نہ لسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوہی اور ہی آیا ہوتا 2. کُنْ تَمَّ تَجِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي تَحِبُّ بِنُكْمِ اللَّهُ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا 3. غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے (کلام مجمود)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4-5 Minutes • Time starts after Attashahud • There will be a leeway of 15 seconds, no marks will be deducted if they are 15 seconds over or under the limit • Memorization is required at Regional and National level NOT Local
French Speech	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Is Allah not Sufficient for His Servant?" 2. Women's Rights in Islam 3. How to attain Inner Peace from Islamic teachings 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-5 Minutes • Time starts after Attashahud • There will be a leeway of 15 seconds, no marks will be deducted if they are 15 seconds over or under the limit • Memorization is required at Regional and National level NOT Local
Nazm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hamain us Yaar se Taqwa ataa Hai (Dur-e-Sameen) 2. Hai Shukre Rabbe Azaawajal (Dur-e-Sameen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Choose one nazm out of the 2 nazms, do NOT repeat verses • Memorization is required at Regional and National level
Bait Ba'azi	<p>Memorization & Delivery of couplets from any of the following books:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dur-e-Samin, Kalam-e-Mahmood, Kalam-e-Tahir, Dur-e-Adan, Bukhar-e-Dil 	<ul style="list-style-type: none"> • Local Level ONLY

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jumma (1-12)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾

یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ

الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ﴿٢﴾

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ
وِیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ وَاِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ

مُّبِیْنٍ ﴿٣﴾

وَآخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَبَّآ یَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٤﴾

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ﴿٥﴾

مَثَلُ الَّذِیْنَ حُبَلُوْا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ یَحْبِلُوْهَا کَمَثَلِ الْحِجَارِ یُحْبَلُ
اَسْفَارًا ط بَعْضُ مَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِآیٰتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا

یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٦﴾

قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَبْتُمْ اَنْکُمْ اَوْلِیَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ

فَتَّبِعُوْا الْبُوءَاتِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿٧﴾

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jumma (1-12)

وَلَا يَتَّبِعُونَهَا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِالظَّالِمِينَ ﴿٨﴾

قُلْ إِنَّ الْبُوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ
إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

﴿٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ۖ انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ

اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿١٢﴾

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jummah (1-12)

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
2. Whatever is in the heavens and whatever is in the Earth glorifies Allah, the Sovereign, the Holy, the Mighty, the Wise
3. He it is Who has raised among the Unlettered people a Messenger from among themselves who recites unto them His Signs, and purifies them, and teaches them the Book and wisdom, although they had been, before in manifest misguidance
4. And among others from among them who have not yet joined them. He is the Mighty, the Wise
5. That is Allah's grace; He bestows it on whom He pleases; and Allah is the Master of immense grace.
6. The likeness of those who were made to bear the law of Torah, but would not bear it, is as the likeness of an ass carrying a load of books. Evil is the likeness of the people who reject the Signs of Allah. And Allah guides not the wrongdoing people.
7. Say, 'O ye who are Jews, if you think you are the friends of Allah to the exclusion of all other people, then wish for Death, if indeed you are truthful

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jumma (1-12)

8. But they will never wish for it, because that which their hands have sent on before them. And Allah knows full well those who do wrong.

9. Say, 'The Death from which you flee will surely meet you. Then will you be returned unto Him Who knows the unseen and the seen, and He will inform you of what you had been doing.'

10. O ye who believe! when the call is made for Prayer on Friday, hasten to the remembrance of Allah, and leave of all business. That is better for you, if you only knew.

11. And when the Prayer is finished, then disperse in the land and seek of Allah's grace, and remember Allah much, that you may prosper.

12. But when they see some merchandise or some amusement, they break up for it, and leave thee standing. Say, 'That which is with Allah is better than amusement and merchandise, and Allah is the Best Provider.'

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jumma (1-12)

French Translation

1. Au nom d'Allah, le Gracieux, le Miséricordieux.
2. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifient Allāh, le Souverain, le Très-Saint, le Puissant, le Sage.
3. C'est Lui Qui a suscité parmi les Illettrés un Messager qui est des leurs, qui leur récite Ses Signes, et les purifie, et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste.
4. Et Il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le Puissant, le Sage.
5. C'est là la grâce d'Allāh ; Il l'accorde à qui Il veut ; et Allāh est le Maître de la grâce immense.
6. L'exemple de ceux qui étaient chargés de la loi de la Torah mais ne l'observaient pas, est pareil à l'exemple d'un âne chargé de livres. Mauvais est l'exemple des hommes qui rejettent les Signes d'Allāh, et Allāh ne guide pas le peuple qui agit injustement.
7. Dis : « Ô vous qui êtes Juifs, si vous croyez être les amis d'Allāh à l'exclusion de tous les autres hommes, alors, souhaitez la mort si vous êtes vraiment véridiques. »

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jumma (1-12)
French Translation

8. Mais ils ne la souhaiteront jamais, à cause de ce que leurs mains ont envoyé devant eux. Et Allāh connaît très bien les injustes.

9. Dis : « La mort que vous fuyez vous rattrapera sûrement. Alors vous serez ramenés à Celui Qui connaît l'invisible et le visible, et Il vous informera de ce que vous faisiez. »

10. Ô vous qui croyez ! lorsque l'appel à la Prière est fait le vendredi, hâtez-vous vers le souvenir d'Allāh, et laissez de côté toute autre affaire. Cela vaut mieux pour vous, si seulement vous saviez.

11. Et lorsque la Prière est terminée, alors dispersez-vous dans le pays, et recherchez quelque grâce de la part d'Allāh, et souvenez-vous beaucoup d'Allāh, afin que vous prospériez.

12. Mais lorsqu'ils voient quelque commerce ou divertissement, ils s'y précipitent et te laissent debout seul. Dis : « Ce qui est avec Allāh vaut mieux que le divertissement et le commerce, et Allāh est le Meilleur des pourvoyeurs. »

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jumma (1-12)

Urdu Translation

1. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار حم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔
2. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے۔ قدّوس ہے۔ کامل غلبہ والا (اور) صاحبِ حکمت ہے۔
3. وہی ہے جس نے اُمی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ اُن پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔
4. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی (اسے مبعوث کیا ہے) جو ابھی اُن سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبہ والا (اور) صاحبِ حکمت ہے۔
5. یہ اللہ کا فضل ہے وہ اُس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔
6. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر اُسے (جیسا کہ حق تھا) انہوں نے اُٹھائے نہ رکھا، گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کیا ہی بُری ہے اُن لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
7. تو کہہ دے کہ اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو! اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو۔

Tilawat-e-Quran (13-14)

Surah Al-Jumma (1-12)
Urdu Translation

8. اور وہ ہر گز اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو اُن کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

9. تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہیں آ لے گی۔ پھر تم غیب اور حاضر کا دائمی علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پس وہ تمہیں (اس کی) خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔

10. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب جمعہ کے دن کے ایک حصہ میں نماز کے لئے بلا یا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔

11. پس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

12. اور جب وہ کوئی تجارت یاد ل بہلا وادیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہت بہتر ہے اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔

Hifz-e-Quran (13-14)

Surah Al-Al'a (1-20)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الّٰعْلٰی ﴿٢﴾ الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰی ﴿٣﴾
وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ﴿٤﴾ وَالَّذِیْ اَخْرَجَ البَّرْعٰی ﴿٥﴾ فَجَعَلَهُ غُثًا اَحْوٰی ﴿٦﴾
سُنُقِرُكَ فَلَآ تُنْسٰی ﴿٧﴾ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفٰی ﴿٨﴾
وَنُیْسِرُكَ لِیُسْرِیْ ﴿٩﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰی ﴿١٠﴾ سَیَذَّكَّرُ مَنْ یَّخْشٰی ﴿١١﴾
وَيَتَجَنَّبُهَا الّٰسْفٰی ﴿١٢﴾ الَّذِیْ یَصْلٰی النَّارَ الْكُبْرٰی ﴿١٣﴾
ثُمَّ لَا یَبُوءُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی ﴿١٤﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰی ﴿١٥﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰی ﴿١٦﴾
بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَیْوةَ الدُّنْیَا ﴿١٧﴾ وَالْآخِرَةَ خَیْرًا وَّابْقٰی ﴿١٨﴾
اِنَّ هٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاُولٰی ﴿١٩﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِیْمَ وَمُوسٰی ﴿٢٠﴾

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
2. Glorify the name of thy Lord, the Most High,
3. Who creates and perfects,
4. And Who designs and guides,
5. And Who brings forth the pasturage,
6. Then turns it black, rotten rubbish.
7. We shall teach thee the Qur'an, and thou shalt forget it not,
8. Except as Allah wills. Surely, He knows what is open and what is hidden
9. And we shall facilitate for thee every facility
10. So go on reminding; surely, reminding is profitable
11. He who fears will soon heed;
12. But the reprobate will turn aside from it,

Hifz-e-Quran (13-14)

Surah Al-Al'a (1-20)

13. He who is to enter the great Fire.
14. Then he will neither die therein nor live.
15. Verily, he truly prospers who purifies himself,
16. And remembers the name of his Lord and offers Prayers.
17. But you prefer the life of this world,
18. Whereas the Hereafter is better and more lasting.
19. This indeed is what is taught in the former Scriptures -
20. The Scriptures of Abraham and Moses

French Translation

1. Au nom d'Allāh, le Gracieux, le Miséricordieux.
2. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Plus-Haut,
3. Qui a créé et a parfait,
4. Et Qui a donné aux éléments leur composition et les a guidés,
5. Et Qui a produit le pâturage,
6. Puis en a fait des ordures noires, pourries.
7. Nous t'enseignerons le Coran, et tu ne l'oublieras pas,
8. Excepté ce qu'Allāh veut. Assurément, Il sait ce qui est découvert et ce qui est caché.
9. Et Nous te faciliterons toutes les facilités.
10. Aussi, continue à rappeler, car assurément le rappel est profitable.
11. Celui qui craint fera bientôt attention ;
12. Mais le plus malchanceux de part sa dépravation s'en détournera,
13. Celui qui doit entrer dans le plus grand Feu.
14. Alors il n'y mourra pas ni ne vivra.
15. En vérité, prospère vraiment celui qui se purifie,
16. Et qui se souvient du nom de son Seigneur, et qui dit sa Prière.

Hifz-e-Quran (13-14)

Surah Al-Al'a (1-20)

17. Mais vous préférez la vie de ce monde,
18. Bien que l'au-delà soit meilleur et plus durable.
19. Ceci est en vérité ce qui est enseigné dans les Ecritures antérieures,
20. Les Ecritures d'Abraham et de Moïse.

Urdu Translation

1. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور)

بار بار رحم کرنے والا ہے۔

2. اپنے بزرگ و بالاربت کے نام کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر۔

3. جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔

4. اور جس نے (عناصر کو) ترکیب دی پھر ہدایت دی۔

5. اور جس نے زندگی کی حفاظت کے لئے سبزہ نکالا۔

6. پھر اسے (ناقدروں کے لئے) سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔

7. ہم ضرور تجھے قراءت سکھائیں گے پس تو نہیں بھولے گا۔

8. سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو

مخفی ہے۔

9. اور ہم تجھے آسانی مہیا کریں گے۔

Hifz-e-Quran (13-14)

Surah Al-Al'a (1-20)

10. پس نصیحت کر۔ نصیحت بہر حال فائدہ دیتی ہے۔
11. وہ ضرور نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہے۔
12. اور سخت بد بخت (شخص) اُس سے اجتناب کرے گا۔
13. جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔
14. پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جئے گا۔
15. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا۔
16. اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔
17. درحقیقت تم تو دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔
18. حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
19. یقیناً یہ ضرور پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔
20. ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

Nazm (13-14)

Hai shukr-e-Rabb-e- 'Azza-wa-jal (Dur-e-Sameen)

جس کی کلام سے ہمیں اُسکا ملا نشاں ہے شکر ربّ عزوجل خارج از بیاں
ہو گی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں
وہ اپنے مُنہ کا آپ ہی آئینہ ہو گیا اُس سے ہمارا پاک دل و سینہ ہو گیا
ہر سینہ شک سے دھو دیا ہر دل بدل دیا اُس نے درختِ دل کو معارف کا پھل دیا

Hai shukr-e-Rabb-e-'Azza-wa-jal khārij az beyān, Jis ke kalām se hamein us ka milā nishān

Woh raushnī jo pā te heiñ hum is kitāb meiñ, Ho gi nahiñ kabhī wo hazā āftāb meiñ

Us se hamārā pāk dil-o-sīna ho giya, Wo apne munh ka āp hī ā'īna ho giyāa

Us ne darakht-e-dil ko m'arif ka phal diya, Har sīna shak se dho diya har dil badal diya

Hamein us yaar se taqwaa ataa hai (Dur-e-Sameen)

ہمیں اُس یار سے تقویٰ عطا ہے نہ یہ ہم سے کہ احسانِ خدا ہے
کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرطِ لقا ہے
یہی آئینہ خالقِ نما ہے یہی اک جو ہر سیفِ دُعا ہے
ہر اک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ ہی سب کچھ رہا ہے

Hamein us yaar se taqwaa ataa hai

Na ye ham se ke ihsaan-e-khudaa hai

Karo koshish agar sidq-o-safaa hai

Ke ye haasil ho jo shart-e-ligaa hai

Yahi aa'ina-e-khaaliq numaa hai

Yahi ik jauhar-e-saif-e du'aa hai

Har ik neki ki jarh ye it tiqaa hai

Agar ye jaRh rahee, sab kuch rahaa hai